

آيَاتُهَا ۴ (۷۸) سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ (۸۰) قَوْلَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

الجزء الثامن (۳۰)

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ①

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ②

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ③

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ④

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ⑥

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ⑦

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ⑧

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑨

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ⑩

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑪

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ⑫

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ⑬

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِ مَاءً ثَجَّاجًا ⑭

لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ⑮

کس بات کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں؟ ①

② کیا، اس بڑی خبر کی نسبت؟

③ وہ (بڑی خبر) یہ جس کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں؟

④ دیکھو! عنقریب یہ جان لیں گے

⑤ پھر دیکھو! عنقریب یہ جان لیں گے

⑥ (ذرا غور کرو) کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا؟

⑦ اور پہاڑوں کو (اس کی) منہیں؟

⑧ اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا

⑨ اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون

⑩ اور بنایا ہم نے رات کو پردہ پوش

⑪ اور بنایا ہم نے دن کو کمائی کے لیے

⑫ اور قائم کیے ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان)

⑬ اور بنایا ہم نے ایک چراغ جگمگاتا ہوا

⑭ اور نازل کیا ہم نے نچرنے والی (بارشوں) سے موٹلا دھاریٹہ

⑮ تاکہ نکالیں اس کے ذریعے سے برقم کا اناج اور سبزہ



وَجَنَّتِ الْفَأَقَا ۝۱۷

اور باغات گھنے ؟ ۱۷

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝۱۸

بے شک فیصلہ کا دن ہے ایک وقت مقرر ۱۸

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝۱۹

وہ دن جب پھونکا جائے گا صور تو آؤ گے تم فوج در فوج ۱۹

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ

اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ

أَبْوَابًا ۝۲۰

دروازے ہی دروازے ۲۰

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۲۱

اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے وہ چمکتی ریت ۲۱

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝۲۲

بے شک جہنم ہے ایک گھات ۲۲

لِلظَّالِمِينَ مَا بَأْسًا ۝۲۳

سرسرکوں کے لیے ٹھکانا ۲۳

لِبَشَرٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۝۲۴

پڑے رہیں گے وہ اس میں مدتوں ۲۴

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝۲۵

نہ چکھیں گے مزہ اس میں ٹھنڈک کا اور نہ پینے کی کوئی چیز ۲۵

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝۲۶

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ ۲۶

جَزَاءً وَفَاقًا ۝۲۷

(یہ) بدلہ ہے پورا پورا ۲۷

لَئِنَّمْ كَانُوا إِلَّا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝۲۸

بے شک یہ لوگ توقع نہ رکھتے تھے کسی حساب کی ۲۸

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝۲۹

اور جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھ کر ۲۹

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝۳۰

جبکہ ہر چیز ہم نے گن کر لکھ رکھی ہے ۳۰

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ

لہذا چکھو مزہ (اپنے کیے کا) کہ ہرگز نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے

إِلَّا عَذَابًا ۝۳۱

مگر عذاب میں ۳۱

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝۳۲

بے شک متقیوں کے لیے ہے مقام کامرانی ۳۲

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝۳۳

(جہاں) باغ ہوں گے اور قسم قسم کے انگور ۳۳

وَكُوَاعِبَ اٰتْرَابًا ۝۳۱

اور نوخیز ہم عمر (لڑکیاں) ۳۱

وَكَاَسًا دِهَاقًا ۝۳۲

اور پیالے پھلکتے ہوئے ۳۲

لَا يَنْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ۝۳۳

نہ سنیں گے وہاں کوئی بے ہودہ بات اور نہ جھوٹ ۳۳

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٍ حِسَابًا ۝۳۴

یہ صلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے اور انعام کثیر اس کا، ۳۴

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ

جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا

وَمَا يَنْبَغِيهَا

اور ہر اس چیز کا جو ان دونوں کے درمیان ہے

الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُونَ

وہ نہایت مہربان ہے (تاہم) نہ یارا ہوگا کسی کو

مِنْهُ خِطَابًا ۝۳۵

اس سے بات کرنے کا ۳۵

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰئِكَةُ

جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے

صَفَاةً لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَن اٰذِنَ لَهُ

صف بستہ نہ بولے گا کوئی مگر وہ جسے اجازت دے

الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝۳۶

رحمن اور کہے بات ٹھیک ٹھیک ۳۶

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ

یہ ہے دن برحق

فَمَن شَاءَ اخْتَدِ

اب جس کا جی چاہے بنا لے

اِلٰى رَبِّهِ مَابًا ۝۳۷

اپنے رب کے پاس ٹھکانا ۳۷

اِنَّا اَنْزَلْنٰكُمْ

بے شک ہم نے آگاہ کر دیا ہے تم کو

عَذَابًا قَرِيْبًا ۝۳۸

اس عذاب سے جو جلد ہی آنے والا ہے

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ

اس دن دیکھ لے گا ہر شخص وہ کچھ جو کر کے آگے بھیجا اس نے

يَدُهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ

اپنے ہاتھوں اور کہے گا کافر:

يَلِيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا ۝۳۹

کاش! ہوتا میں مٹی ۳۹



**سُورَةُ التَّرْغُوتِ مَكِّيَّةٌ (۷۹) اِيَاتُهَا ۲۷**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

۱ وَالْتِرْعَتِ غَرْقًا ۱

۲ وَالنُّشُطِ نَشْطًا ۲

۳ وَالسَّيْحَتِ سَبْحًا ۳

۴ فَالسَّبِقَتِ سَبْقًا ۴

۵ فَالْمُدْبِرَتِ أَمْرًا ۵

۶ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۶

۷ تَتَّبِعُهَا الرّٰدِفَةُ ۷

۸ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۸

۹ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۹

۱۰ يَقُولُونَ عَلَانًا لَّمْ رُدُّوْا

۱۱ فِي الْحَافِرَةِ ۱۱

۱۲ إِذْ اكْتَنَّا عِظَامًا نَّخْرَةً ۱۲

۱۳ قَالُوْا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۱۳

۱۴ فَايْمَانًا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۱۴

۱۵ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۵

وقف لازمہ

وقف لازمہ

وقف لازمہ

قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو کھینچنے والے میں (روح کو) ڈوب کر ①

اور نکال لے جانے والے میں (اسے) آہستگی سے ②

اور (ان کی) جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے ③

پھر سبقت لے جانے والے میں (دور کر اللہ کا حکم بجالانے میں) ④

پھر انتظام چلانے والے میں معاملات کا (احکام الہی کے مطابق) ⑤

اکر وہ دن آکر ہے گا جس دن ہلا ڈلے گا زلزلے کا جھٹکا ⑥

پیچھے آئے گا اس کے دوسرا جھٹکا ⑦

کتنے ہی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے ⑧

نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی ⑨

کہتے ہیں یہ لوگ: کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے واپس

پہلی حالت میں ⑩

کیا جب بھی کہ ہو چکے ہوں گے ہم بڑیاں کھوکھلی اور بوسیدہ ⑪

کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹایا جانا بڑے ہی گھلٹے کا (موجب) ہوگا ⑫

حالانکہ یہ تو بس (ہوگی) زور دار ڈانٹ ایک ہی بار ⑬

اور یکدم آ موجود ہوں گے وہ سب میدان (حشر) میں ⑭



هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ۱۵

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۶

إِذْ هَبُّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۱۷

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ۱۸

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ

فَتَخْشَىٰ ۱۹

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۲۰

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۲۱

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۲۲

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۲۳

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۲۴

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ

الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۲۵

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

لِمَنْ يَخْشَىٰ ۲۶

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنِيهَا ۲۷

رَفَعَهَا سَنَكهَا فَسَوَّيْنَاهَا ۲۸

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَمْنَهَا ۲۹

بھلا پہنچی ہے تمہیں خبر موسیٰ کے واقعہ کی ؟ ۱۵

جب پکارا اسے اس کے رب نے

طوی کی وادی مقدس میں ۱۶

کہ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے ۱۷

اور کہو کیا تجھے کچھ رغبت ہے اس بات کی کہ خود کو پاک کرے ؟ ۱۸

اور رہنمائی کروں میں تیری تیرے رب کی طرف

کہ تیرے اندر (اس کا) خوف پیدا ہو ۱۹

پھر دکھائی موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی ۲۰

مگر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا ۲۱

پھر پلٹا چال بازیاں کرنے کے لیے ۲۲

سو جمع کیا اس نے (لوگوں کو) اور پکارا ۲۳

اور کہا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب ۲۴

سو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عبرتناک عذاب میں

آخرت کے اور دنیا کے ۲۵

بے شک اس واقعہ میں بڑا سامان عبرت ہے

ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے (اللہ سے) ۲۶

کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اللہ نے اس کو بھی بنایا ۲۷

بلند کیا اس کی چھت کو پھر اس کا توازن قائم کیا ۲۸

اور تاریک بنایا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو ۲۹



وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝۳۰

اور زمین کو بعد ازاں بہوار کیا ۳۰

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ۝۳۱

نکالا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ ۳۱

وَأَيُّجِبَالَ أَرْسَهَا ۝۳۲

اور پہاڑوں کو بنایا، زمین کا نگر ۳۲

مَتَاعًا لَّكُمْ

(بطور) سامانِ زیست تمہارے لیے

وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝۳۳

اور تمہارے مویشیوں کے لیے ۳۳

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ۝۳۴

پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی ۳۴

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝۳۵

اس دن یاد کرے گا انسان اپنا کیا دھرا ۳۵

وَبُورَتِ الْجَبْهِيمُ لِمَنْ يَرَى ۝۳۶

اور کھول کر سامنے کر دی جائے گی جہنم بہر دیکھنے والے کے لیے ۳۶

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝۳۷

چنانچہ جس نے سرکش کی ۳۷

وَأَشْرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝۳۸

اور تزیح دی دنیاوی زندگی کو ۳۸

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝۳۹

تو بے شک جہنم ہی ہے اس کا ٹھکانا ۳۹

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى

لیکن جو کوئی ڈرا پیشی سے اپنے رب کے حضور اور روکا اس نے

النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝۴۰

اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے ۴۰

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝۴۱

تو بے شک جنت ہی ہے اس کا ٹھکانا ۴۱

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

پوچھتے ہیں لوگ تم سے قیامت کے بارے میں

آيَانَ مَرْسِهَا ۝۴۲

کہ کب واقع ہوگی وہ؟ ۴۲

فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝۴۳

کیا سروکار تمہیں اس کے ذکر سے؟ ۴۳

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۝۴۴

تیرے رب کے پاس ہے انتہا قیامت (کے علم) کی ۴۴

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

تم تو بس خبردار کرنے والے ہو



مَنْ يَخْشَاهَا ۚ

ان کو جو ڈرتے ہیں قیامت سے ۲۵

كَانَ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

انہیں ایسے لگے گا جس دن دیکھیں گے قیامت کو

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۚ

کہ نہیں رہے تھے وہ (دنیا میں) مگر ایک شام یا ایک صبح ۲۶

۲۶

## آيَاتُهَا ۲۲ (۸۰) سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ (۲۲) نُوْنُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱

ترش رو ہوا اور بے رخی برقی ①

اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۲

اس بات پر کہ آیا اس کے پاس وہ نابینا ②

وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكٰی ۳

اور کیا خبر تمہیں شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا ③

اَوْ يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰی ۴

یا نصیحت سنتا تو نفع پہنچاتی اس کو (تمہاری نصیحت ④

اَمَّا مِّنْ اِسْتَعْفٰی ۵

لیکن جو کوئی بے پردائی برتا ہے ⑤

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدٰی ۶

تو تم اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہو ⑥

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزْكٰی ۷

حالانکہ نہیں ہے تم پر ذمہ داری اس کی کہ نہیں سدھرتا وہ ⑦

وَاَمَّا مِّنْ جَاۤءِكَ لِيَسْعٰی ۸

لیکن جو شخص آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا ⑧

وَهُوَ يَخْشٰی ۹

اور وہ ڈر رہا ہے (اللہ سے) ⑨

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰی ۱۰

تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو ⑩

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۱۱

ہرگز نہیں بے شک قرآن تو سراپا نصیحت ہے ⑪

مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۱۲

سو جو چاہے قبول کرے اسے ⑫

۱۲



فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۱۳

لکھا ہوا ہے ایسے صحیفوں میں جو مکرم ہیں ۱۳

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۱۴

بلند مرتبہ میں پاکیزہ ہیں ۱۴

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۱۵

ہاتھوں میں ہیں ایسے کاتبوں کے ۱۵

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۱۶

جو معزز ہیں، نیکو کار ہیں ۱۶

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ۱۷

ہلاک ہو انسان کس قدر ناشکر ہے وہ! ۱۷

مِنْ أَمِي شَيْءٍ خَلَقَهُ ۱۸

کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے اسے؟ ۱۸

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ

منی کے ایک قطرے سے۔ پیدا کیا اللہ نے اسے

فَقَدَرَهُ ۱۹

پھر تقدیر مقرر کی اس کی ۱۹

ثُمَّ السَّبِيلَ يَتَرَهُ ۲۰

پھر زندگی کی راہ آسان کی اس کے لیے ۲۰

ثُمَّ آمَاتُهُ فَاقْبَرَهُ ۲۱

پھر موت دی اس کو پھر قبر میں پہنچایا اسے ۲۱

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۲۲

پھر جب چاہے گا وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے ۲۲

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۲۳

ہرگز نہیں! نہ بجالا یا وہ اس حکم کو جو دیا اللہ نے اسے ۲۳

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۲۴

پھر ذرا دیکھے انسان اپنی خوراک کو ۲۴

إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۲۵

بے شک ہم ہی نے برسایا پانی فراوانی سے ۲۵

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۲۶

پھر بھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقہ سے ۲۶

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۲۷

پھر اگائے ہم نے اس میں نلے ۲۷

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۲۸

اور انگور اور ترکاریاں ۲۸

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۲۹

اور زیتون اور کھجوریں ۲۹

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۳۰

اور باغات گنے ۳۰



وَفَاكِهَةً وَأَبًا ۳۱

اور بچل اور چارے ۳۱

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ ۳۲

سامان زلیست تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ۳۲

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۳۳

پھر جب آئے گی بہرہ کر دینے والی آواز ۳۳

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۳۴

اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے ۳۴

وَأُمِّهِ ۳۵

اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے ۳۵

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۳۶

اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے ۳۶

لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ

ہر شخص کی ان میں سے اس دن

شَانٌ يُغْنِيهِ ۳۷

ایسی حالت ہوگی کہ اسے اپنی پڑی ہوگی ۳۷

وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ ۳۸

کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے ۳۸

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۳۹

ہنستے مسکراتے، خوش و خرم ۳۹

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ

اور کتنے ہی چہرے لیے ہوں گے اس دن

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۴۰

جن پر خاک اڑ رہی ہوگی ۴۰

تَرَهْقُهَا قَتَرَةٌ ۴۱

چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی ۴۱

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ۴۲

یہی لوگ ہیں کافر، بدکردار ۴۲

آيَاتُهَا ۲۹ (۸۱) سُورَةُ التَّكْوِيْمِ مَكِّيَّةٌ (۷) دُرُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

جب سورج لپیٹ دیا جائے گا ①

① إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ①



وَإِذَا التُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝۴

اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے ۲

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝۵

اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے ۳

وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ ۝۶

اور جب دس ماد کی حاطرہ اونٹنیاں ٹھٹی پھریں گی ۴

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝۷

اور جب وحشی جانور امکے خوف کے اکٹھے ہو جائیں گے ۵

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝۸

اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے ۶

وَإِذَا التُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝۹

اور جب جانوں کو جسموں سے جوڑا جائے گا ۷

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيِّتَتْ ۝۱۰

اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا ۸

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝۱۱

کہ آخر کس گناہ پر مارا گیا اسے ۹

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝۱۲

اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے ۱۰

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝۱۳

اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا ۱۱

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ۝۱۴

اور جب جہنم دہکائی جائے گی ۱۲

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفِقتْ ۝۱۵

اور جب جنت قریب لائی جائے گی ۱۳

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝۱۶

جان لے گا ہر شخص، کیا لے کر آیا ہے وہ ۱۴

فَلَا أُقِيمُ بِالنَّحْسِ ۝۱۷

پس نہیں، قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والے استاروں کی ۱۵

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝۱۸

چلنے والے، اور چھپ جانے والوں کی ۱۶

وَالْبَيْلِ إِذَا عَسَّسَ ۝۱۹

اور رات کی، جب زحمت ہونے لگتی ہے وہ ۱۷

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۲۰

اور صبح کی، جب سانس لیتی ہے وہ ۱۸

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۲۱

بے شک یہ (قرآن)، پیغام ہے زبانی فرشتہ عالی مقام کے ۱۹

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۲

جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے مرتبہ والا ہے ۲۰



مُطَاعٍ ثُمَّ آمِينَ ﴿٢١﴾

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

وَلَقَدْ رَآهُ

بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ

بِضْنِينَ ﴿٢٤﴾

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

اس کی بات مانی جاتی ہے وہاں اور امین بھی ہے ﴿٢١﴾

اور نہیں اے اہل مکہ، تمہارا یہ ساتھی کوئی دیوانہ ﴿٢٢﴾

اور بلاشبہ دیکھا ہے اس نے اس (پیغام لانے والے) کو

روشن اُفق پر ﴿٢٣﴾

اور نہیں ہے یہ (رسول) غیب کی بات بتانے میں

ذرا بھی بخیل ﴿٢٤﴾

اور نہیں ہے یہ (قرآن) کلام کسی شیطانِ مردود کا ﴿٢٥﴾

پھر کدھر چلے جا رہے ہو تم؟ ﴿٢٦﴾

نہیں ہے قرآن مگر نصیحت سب اہل جہاں کے لیے ﴿٢٧﴾

ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھی راہ چلنا ﴿٢٨﴾

اور نہیں چاہ سکتے تم مگر یہ کہ چاہے

اللہ رب العالمین ﴿٢٩﴾

## آیاتہا ۱۹ ﴿سُورَةُ الْإِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ (۸۲)﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿١﴾ جب آسمان پھٹ جائے گا

﴿٢﴾ اور جب تارے بکھر جائیں گے

﴿٣﴾ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے

﴿٤﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾

﴿٥﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾

﴿٦﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾



وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۙ

عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

وَأَخَّرَتْ ۗ

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَمَرَكَ

بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۙ

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ

فَعَدَلَكَ ۙ

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۙ

كَلَّا بَلْ

شُكَّ بُؤَنَ بِالْذِّينِ ۙ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۙ

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۙ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۙ

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۙ

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الذِّينِ ۙ

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۙ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۙ

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۙ

اور جب قبریں کھدی جائیں گی ۙ

جان لے گا ہر شخص کہ کیا آگے بھیجا اس نے

اور کیا پیچھے چھوڑا اس نے ۙ

لے انسان! آخر کس چیز نے دھوکا دیا ہے تجھ کو!

تیرے رب کے پاس میں جو بہت کرم کرنے والا ہے ۙ

جس نے پیدا کیا تجھے پھر نیک سگ سے درست کیا

اور قناری بنایا تجھے ۙ

جیسی بھی شکل و صورت میں چاہا جوڑ کر تیار کیا تجھے ۙ

ہرگز نہیں! بلکہ (اصل بات یہ ہے کہ)

بھٹلاتے ہو تم جزا و سزا کو ۙ

حالانکہ بے شک تم پر مقرر ہیں نگرانی کرنے والے ۙ

بہت معزز لکھنے والے (اعمال کے) ۙ

جاتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہو تم ۙ

بے شک نیک لوگ ضرور ہوں گے نعمتوں کی بہشت میں ۙ

اور بے شک بدکار لوگ ضرور ہوں گے جہنم میں ۙ

داخل ہوں گے وہ اس میں جزا و سزا کے دن ۙ

اور نہیں ہو سکیں گے وہ اس سے غائب ۙ

اور کیا جانو تم کیا ہے جزا و سزا کا دن؟ ۙ

پھر کہتے ہیں ہم، کیا جانو تم کیا ہے جزا و سزا کا دن؟ ۙ



يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا  
وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ①

وہ دن کہ نہ کر سکے گا کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی  
اور فیصلہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا ①

آيَاتُهَا ۳۱ (۸۳) سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ (۸۶) ذِكْوَعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَنِيلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ①

تباہی ہے (ناپ تول میں) کمی کرنے والوں کے لیے ①

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

وہ لوگ کہ جب لیتے ہیں ناپ تول کر (دوسرے) لوگوں سے

يَسْتَوْفُونَ ②

تو پورا پورا لیتے ہیں ②

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

اور جب ناپتے ہیں ان کے لیے یا تول کر دیتے ہیں انہیں

يُخْسِرُونَ ③

تو کم دیتے ہیں ③

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ

کیا ذرا بھی خیال نہیں کرتے یہ لوگ کہ بے شک وہ

مَبْعُوثُونَ ④

اٹھائے جانے والے ہیں؟ ④

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤

ایک عظیم دن (کی پیشی) کے لیے ⑤

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥

وہ دن کہ کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے حضور ⑥

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُتُورِ لَفِي سِجِّينٍ ⑦

ہرگز نہیں! بے شک اعمال نامہ بدکاروں کا سچین میں ہوگا ⑦

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ⑧

اور کیا جانو تم کیا ہے سچین؟ ⑧

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ⑨

ایک بڑا دفتر ہے لکھا ہوا ⑨

وَنِيلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑩

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ⑩



الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝  
 وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ  
 مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝  
 إِذَا تَنَتَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا  
 قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝  
 كَلَّا بَلْ عَتَرَانِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ  
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝  
 كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ  
 يَوْمِيذٍ لَّمْ حُجُّوا ۝  
 ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝  
 ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكْذِبُونَ ۝  
 كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ  
 لَفِي عِلِّيِّينَ ۝  
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝  
 كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝  
 يُشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ ۝  
 إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝  
 عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ۝  
 تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ

یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں جزاء و سزا کے دن کو ۝  
 اور نہیں جھٹلاتا اس (دن) کو مگر ہر (وہ شخص جو)  
 حد سے گزر جانے والا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے ۝  
 جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات  
 تو کہتا ہے: افسانے ہیں پہلے لوگوں کے ۝  
 ہرگز نہیں! واقعہ یہ ہے کہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر  
 ان (اعمالِ بد) کا جو وہ کماتے رہے ہیں ۝  
 بے شک یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے  
 اس دن محروم رکھے جائیں گے ۝  
 پھر بے شک یہ لوگ ضرور جا پڑیں گے جہنم میں ۝  
 پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے ۝  
 ہرگز نہیں! بے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا  
 عِلِّيِّین میں ہوگا ۝  
 اور کیا جانو تم کیا ہے عِلِّيِّین ۝  
 ایک بڑا دفتر ہے لکھا ہوا ۝  
 نگہداشت کرتے ہیں اس کی مقرب فرشتے ۝  
 بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے ۝  
 بلند مندوں پر (بیٹھے) نظارہ کر رہے ہوں گے ۝  
 پہچان لے گا تو ان کے چہروں پر



نَضْرَةً النَّعِيمِ ۳۰

تری دتا زگی عیش و آرام کی ۳۰

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۳۱

پلائی جائے گی ان کو خالص شراب، مہر مہر ۳۱

خَتْمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ

مہر ہوگی اس پر مُسک کی اسی کی تو رغبت کرنی چاہیے

الْمُتَنَافِسُونَ ۳۲

رغبت کرنے والوں کو ۳۲

وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۳۳

آمیزش ہوگی اس میں تسنیم کی ۳۳

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۳۴

یہ ایک چشمہ ہے پس گے جس میں سے مقرب بندے ۳۴

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے،

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَظْهَكُونَ ۳۵

ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے ۳۵

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ

اور جب گزرتے تھے وہ ان کے پاس سے

يَتَغَامَزُونَ ۳۶

تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے ۳۶

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ آهْلِهِمْ انْقَلَبُوا

اور جب لوٹتے تھے اپنے اہل خانہ کی طرف تو لوٹا کرتے تھے،

فَكِهِينَ ۳۷

اہل ایمان پر پھبتیاں کس کس کر مہلطف اندوز ہوتے ہوئے ۳۷

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا

اور جب دیکھتے تھے ان کو تو کہا کرتے تھے:

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۳۸

بے شک یہی لوگ ہیں دراصل گمراہ ۳۸

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۳۹

ملائکہ نہیں بھیجا گیا تھا انہیں ان پر نگران بنا کر ۳۹

قَالِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا

سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے،

مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۴۰

کفار پر ہنس رہے ہیں ۴۰

عَلَىٰ الْأَرَائِكِ ۴۱ يَنْظُرُونَ ۴۲

بلند مسندوں پر بیٹھے (ان کا حال) دیکھ رہے ہیں ۴۱

هَلْ ثَوَّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۴۳

مل گیا ناپورا پورا بدلہ کفار کو ان کے کرتوتوں کا ۴۳



آيَاتُهَا ۲۵ (۸۳) سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ (۸۳) رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝۱﴾

جب آسمان پھٹ جائے گا ①

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا

اور تعمیل کرے گی اپنے رب کے حکم کی

وَوُحِّتَتْ ۝۲﴾

اور اسے یہی زیب دیتا ہے ②

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝۳﴾

اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی ③

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا

اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے

وَتَخَلَّتْ ۝۴﴾

اور خالی ہو جائے گی ④

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا

اور تعمیل کرے گی اپنے رب کے حکم کی

وَوُحِّتَتْ ۝۵﴾

اور اسے یہی زیب دیتا ہے ⑤

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ

اے انسان! بے شک تو چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف

كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝۶﴾

کشاں کشاں ہلا آخرا اس کے حضور پیش ہونا ہے تجھے ⑥

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

تو پھر جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ

بِجَمِينِهِ ۝۷﴾

اس کے دائیں ہاتھ میں ⑦

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝۸﴾

سو ضرور حساب لیا جائے گا اس سے آسان حساب ⑧

وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝۹﴾

اور لوٹے گا وہ اپنے لوگوں میں شادان و فرحان ⑨

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ

اور رہا وہ جس کو پکڑا یا جائے گا



كِتَبَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ⑩

اعمال نامر اس کا پیٹھ پیچھے سے ⑩

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⑪

سو ضرور مانگے گا وہ موت ⑪

وَيَصْلَى سَعِيرًا ⑫

اور جا پڑے گا دہکتی آگ میں ⑫

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑬

بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں مگن ⑬

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ⑭

بے شک اس نے سمجھ رکھا تھا کہ ہرگز نہیں ہے پلٹ کر جانا ⑭

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ

کیوں نہیں (ضرور پلٹنا ہے) بے شک اس کا رب

كَانَ بِهِ بَصِيرًا ⑮

اس کے سارے کرتوت دیکھ رہا تھا ⑮

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ⑯

پس نہیں! قسم کھاتا ہوں میں شفق کی ⑯

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ⑰

اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے ⑰

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ⑱

اور چاند کی جب وہ اور چاند کو پہنچتا ہے ⑱

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبِقٍ ⑲

تم بھی ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ (رتبہ اعلیٰ) پر ⑲

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑳

پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ ایمان نہیں لاتے ⑳

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن

لَا يَسْجُدُونَ ㉑

تو سجدہ نہیں کرتے ㉑

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ㉒

بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جھٹلاتے ہیں اس کو ㉒

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو

يُوعُونَ ㉓

انہوں نے بھرا رکھا ہے اپنے دلوں میں ㉓

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ㉔

پس بشارت دے دو ان کو دردناک عذاب کی ㉔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام



لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۲۵

ان کے لیے ہے ایسا اجر جو نہ ختم ہونے والا ہے ۝۲۵

آيَاتُهَا ۲۲ (۸۵) سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ (۲۶) ذِكْرُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱

قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے ۝۱

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝۲

اور روز (قیامت) کی جس کا وعدہ ہے ۝۲

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝۳

اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی ۝۳

قَتِيلٍ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ۝۴

ہلاک کر دیے گئے کھائیاں کھودنے والے ۝۴

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝۵

جس میں (بھری ہوئی تھی) آگ خوب دیکھتی ہوئی ۝۵

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝۶

جبکہ وہ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے ۝۶

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

اور وہ، جو کچھ کر رہے تھے

بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝۷

مومنوں کے ساتھ خود دیکھ رہے تھے ۝۷

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا

اور نہیں بدل لیا تھا انہوں نے ان سے مگر

أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

اس کا کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۸

جو سب پر غالب، ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے ۝۸

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وہ جس کو زیبا ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۹

اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ۝۹

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

بے شک وہ لوگ جنہوں نے آگ میں جلایا مومن مردوں کو



وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا

فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ

عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑩

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ⑪

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ⑫

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ⑬

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ

وَيُعِيدُ ⑭

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ⑮

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ⑯

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ⑰

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ⑱

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ⑲

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ⑳

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ㉑

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ㉒

فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ㉓

اور مومن عورتوں کو اس کے بعد توبہ بھی نہ کی

تو ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب اور ان کے لیے ہے

سزا آگ میں جلنے کی ⑩

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے

نیک عمل ان کے لیے ہیں بہشت کے باغ،

بہر رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں،

یہی ہے کامیابی بہت بڑی ⑪

بے شک پکڑ تیرے رب کی بہت ہی سخت ہے ⑫

بے شک وہی توبہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے

اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا ⑬

اور وہی ہے بہت بخشنے والا بہت مجرت کرنے والا ⑭

مالک عرش کا بڑی عظمت و شان والا ⑮

کر گزرنے والا اس (کام) کا جس کا ارادہ کرے ⑰

بھلا پہنچی ہے تم کو خبر لشکروں کی؟ ⑱

فرعون اور ثمود (کے لشکروں) کی ⑲

لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اگلے ہوئے میں بھٹلانے میں ⑳

حالانکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے ㉑

ان کا بھٹلانا بے سود ہے، وہ قرآن ہے بڑی عظمت و شان والا ㉒

لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے ㉓



(۸۶) سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ (۳۶) آيَاتُهَا ۱۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

① قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی

② اور کیا جانو تم کیا ہے وہ رات کو نمودار ہونے والا؟

③ ایک تارا ہے چمکتا ہوا

④ یقیناً ہر تنفس پر ضرور (مقرر) ہے ایک نگہبان

⑤ سو ذرا غور کرے انسان کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ؟

⑥ پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے

⑦ جو نکلتا ہے بیچ میں سے پیٹھ اور پسلیوں کے

⑧ بے شک اللہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر بہر حال قادر ہے

⑨ جس دن جانچ پڑتال ہوگی سب چھپی باتوں کی

⑩ تو نہ ہوگا انسان کے پاس کوئی زور اور نہ کوئی مددگار

⑪ قسم ہے آسمان کی جو ہمیشہ برساتا ہے

⑫ اور قسم زمین کی جو دپو داگتے وقت پھٹ جاتی ہے

⑬ بے شک کلام الہی یقیناً بات ہے دو ٹوک

⑭ اور نہیں ہے یہ کلام کوئی ہنسی مذاق

⑮ بے شک یہ لوگ چل رہے ہیں ایک چال

① وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ

② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ

③ النَّجْمُ الثَّاقِبُ

④ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

⑤ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

⑥ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ

⑦ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

⑧ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

⑨ يَوْمَ تُبْنَى السَّرَابِ

⑩ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

⑪ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

⑫ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

⑬ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

⑭ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

⑮ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا



اور میں بھی چل رہا ہوں ایک چال ①  
پس چھوڑ دو ان کے حال پر اے نبی، ان کافروں کو  
دھیل دو ان کو اک ذرا کی ذرا ②

وَأَكِيدُ كَيْدًا ①  
فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ  
أَمْهَلُهُمْ رُويْدًا ②

### آيَاتُهَا ۱۹ (۸۶) سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مَكِّيَّةٌ (۸) كَوْنُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- ① تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے
- ② جس نے پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا
- ③ اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی
- ④ اور جس نے نکالا چارا
- ⑤ پھر بنا دیا اس کو گھڑا، سیاہ
- ⑥ البتہ پڑھائیں گے تم ہمیں پھر نہ بھولو گے تم
- ⑦ بجز اس کے جو چاہے اللہ، بے شک وہی جانتا ہے
- ⑧ ظاہر کو بھی اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے
- ⑨ اور سہولت دیں گے تم ہمیں آسان طریقہ کی
- ⑩ سو نصیحت کرتے رہو تم، اگر نصیحت نفع دے
- ⑪ ضرور نصیحت قبول کرے گا وہ جسے خوف ہے اللہ کا
- ⑫ اور اگر ذکر کرے گا اس سے جو ہوگا انتہائی بدبخت

- ① سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ①
- الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ②
- وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ③
- وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④
- فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ⑤
- سُقِرْتِكَ فَلَا تَنْسَى ⑥
- إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ  
الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ⑦
- وَنُبَيِّرُكَ لِّلْيُسْرَى ⑧
- فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ⑨
- سَيِّدَكَ مَن يَخْشَى ⑩
- وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑪



الَّذِي يَصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَى ⑫

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ⑬

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ⑭

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ⑮

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ⑯

وَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ⑰

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ⑱

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ⑲

وہ جو جاڑے گا بڑی آگ میں ⑫

پھر نہ موت آئے گی اسے اس میں اور نہ زندہ ہی ہوگا ⑬

یقیناً فلاح پائے گا وہ جس نے پاک کیا خود کو ⑭

اور لیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی ⑮

لیکن ترجیح دیتے ہو تم تو دنیاوی زندگی کو ⑯

جبکہ اُفروہی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ⑰

بے شک یہی بات دکھی ہوئی ہے پہلے صحیفوں میں بھی ⑱

صحیفے ابراہیم کے اور موسیٰ کے ⑲

## بِأَنبَاءِهَا ۲۱ (۸۸) سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ (۶۸) كَوْنُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

بھلا پہنچی تم کو خبر چھا جانے والی آفت (قیامت) کی ①

کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے خوفزدہ ②

سخت مشقت کرنے والے تھکے ماندے ③

بھلس رہے ہوں گے وہ دہکتی آگ میں ④

پلایا جائے گا انہیں ایک کھولتے ہوئے چٹھے سے ⑤

نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ

مگر ایک فار دار خشک جھاڑی ⑥

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ①

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ②

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ③

تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ④

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ⑤

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑥



لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ⑥

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَاَعَمَةٌ ⑦

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑧

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑩

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِغِيَّةٍ ⑪

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫

فِيهَا سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ ⑬

وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ⑭

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ⑮

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ⑯

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ⑰

وَأِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ⑱

وَأِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⑲

وَأِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ⑳

فَذَكِّرْ تِلْكَ إِنَّمَا أَنْتَ

مُذَكِّرٌ ㉑

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ㉒

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ㉓

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ㉔

جو نہ موٹا کرے اور نہ مٹائے بھوک ⑥

کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے تروتازہ ⑦

اپنی کارگزاری پر خوش و خرم ⑧

بہشت بڑی میں ⑩

نہ سنیں گے وہ وہاں کوئی بے ہودہ بات ⑪

اس میں چشمتے ہیں رواں ⑫

اس میں مسندیں ہیں اونچی اونچی ⑬

اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے ⑭

اور گاؤں کیے قطار در قطار ⑮

اور قالین بچھے ہوئے ⑯

تو کیا نہیں دیکھتے یہ، اونٹ کو کیسا عجیب، پیدا کیا گیا؟ ⑰

اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا؟ ⑱

اور پہاڑوں کو کس انداز سے جمائے گئے؟ ⑲

اور زمین کو کس انداز سے بچھائی گئی؟ ⑳

سو اے نبی! تم نصیحت کرتے رہو۔ تم ہو بس

نصیحت کرنے والے ㉑

نہیں ہو تم ان پر کوئی جبر کرنے والے ㉒

مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا ㉓

سو عذاب دے گا اسے اللہ عذاب بہت بڑا ㉔



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ

یقیناً ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے ۛ

ثُمَّ لَنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ۚ

پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ان سے حساب لینا ہے ۛ

## آيَاتُهَا ۳۰ (۸۹) سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ (۱۰) كَوْنُهُمَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالْفَجْرِ ۝۱

قسم ہے - فجر کی ①

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲

اور دس راتوں کی ②

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳

اور جفت کی اور طاق کی ③

وَالْبَيْلِ إِذَا يُسْرٍ ۝۴

اور رات کی - جب وہ جانے لگے ④

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ

بھلا ان میں کوئی قسم ہے

لِذِي حَجْرٍ ۝۵

کسی صاحب عقل (کے غور و فکر) کے لیے؟ ⑤

الْمُتْرَكِيفَ فَعَلَ

کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برتاؤ کیا

رَبُّكَ بِعَادٍ ۝۶

تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ⑥

لِأَرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝۷

عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والی ⑦

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝۸

وہ کہ نہیں پیدا کی گئی اس کی مثل (کوئی قوم) ملکوں میں ⑧

وَتَمُودَ الَّذِينَ

اور قوم تمود (کے ساتھ) جنہوں نے

جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝۹

تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں ⑨

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝۱۰

اور فرعون میخوں والے (کے ساتھ) ⑩



الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۝۱۱

فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝۱۲

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝۱۳

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۝۱۴

فَأَمَّا إِلَّا نَسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۝

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝۱۵

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِشْقَهُ ۝

فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝۱۶

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝۱۷

وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝۱۸

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ۝۱۹

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝۲۰

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ

الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝۲۱

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

صَفًّا صَفًّا ۝۲۲

وَجِئْتِي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝

یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی ملکوں میں ۝۱۱

اور بہت پھیلایا تھا ان میں فساد ۝۱۲

آخر کار برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ۝۱۳

بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے ۝۱۴

لیکن انسان (کا حال یہ ہے) کہ جب بھی آزماتا ہے اس کو

رب اس کا سوزنٹ بخشتا ہے اس کو اور نعمتیں دیتا ہے اس کو

تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بہت عزت بخشی ہے مجھے ۝۱۵

لیکن پھر جب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ اسے

اور تنگی کر دیتا ہے اس پر اس کے رزق میں

تو کہتا ہے کہ میرے رب نے ذلیل کر دیا مجھے ۝۱۶

ہرگز نہیں! بلکہ تم اچھا سلوک نہیں کرتے یتیم کے ساتھ ۝۱۷

اور نہیں ترغیب دیتے تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ۝۱۸

اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر ۝۱۹

اور پیار کرتے ہو تم مال سے جی بھر کر ۝۲۰

ہرگز نہیں! جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی

زمین کوٹ کوٹ کر ۝۲۱

اور جلوہ فرما ہوگا تیرا رب اور فرشتے (کھڑے ہوں گے)

صف در صف ۝۲۲

اور لائی جائے گی اس دن جہنم (سب کے سامنے)



يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ  
وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝۲۳

اس دن سمجھ آئے گی انسان کو

مگر اب کیا (ماصل)، اس کے سمجھنے کا! ۲۳

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ  
رِحَابِي ۝۲۴

کہے گا کاش! آگے بھیجتے ہوتے میں نے (کچھ نیک عمل،

اپنی اس زندگی کی خاطر ۲۴

فِيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝۲۵  
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝۲۶

پھر اس دن نہ عذاب دے گا اللہ کا سا عذاب کوئی اور ۲۵

اور نہیں جکڑے گا اللہ کا سا جکڑنا کوئی اور ۲۶

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝۲۷  
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

ایک روح سے خطاب ہوگا، اے نفس مطمئنہ ۲۷

واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی

وہ تجھ سے راضی ۲۸

مَرْضِيَّةً ۝۲۸

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝۲۹

پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں ۲۹

وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝۳۰

اور داخل ہو جا میری جنت میں ۳۰

### ﴿أَيَّتُهَا ۲۷﴾ سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ (۹۰) ﴿كُوعُهَا ۱﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿ لَا أُقِيمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۱﴾

نہیں! قسم کھاتا ہوں میں اس شہر (مکہ) کی ۱

﴿ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۲﴾

اور تم اے محمد! رہتے ہو اس شہر میں ۲

﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۳﴾

اور (قسم) باپ (آدم) کی اور اس کی اولاد کی ۳

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۴﴾

بلاشبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں ۴



أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ⑤  
 يَقُولُ أَهْلَكَتُ مَالًا لَبَدًّا ⑥  
 أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَكَ أَحَدٌ ⑦  
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ⑧  
 وَلسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨  
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ⑩  
 فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ⑪  
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑫  
 فَكَّ رِجْلَهُ ⑬  
 أَوَلَمْ نَطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ ⑭  
 يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ⑮  
 أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ⑯  
 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ  
 وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ⑰  
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑱  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا تَنَّا  
 هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ⑲  
 عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ⑳

کیا خیال کرتا ہے وہ یہ کہ نہیں بس چلے گا اس پر کسی کا؟ ⑤  
 کتاب ہے کہ اڑا دیا میں نے مال ڈھیروں ⑥  
 کیا سمجھتا ہے وہ یہ کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ ⑦  
 بھلا نہیں عطا کیں ہم نے اس کو دو آنکھیں؟ ⑧  
 اور زبان اور دو ہونٹ؟ ⑨  
 اور دکھا دی ہیں ہم نے اس کو (خیر و شر کی) دونوں راہیں ⑩  
 مگر نہ گزرا وہ دشوار گزار گھاٹی پر سے ⑪  
 اور کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ ⑫  
 پھڑانا ہے گردن کا ⑬  
 یا کھانا کھلانا کسی فاتح کے دن ⑭  
 یتیم کو جو رشتہ دار ہو ⑮  
 یا مسکین کو جو خاک میں پڑا ہوا ہو ⑯  
 پھر ہو بھی یہ (کھلانے والا) ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے  
 اور نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی  
 اور رحمت کرتے رہے ایک دوسرے کو رحم کی ⑰  
 یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے ⑱  
 اور وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا ہماری آیات کو  
 یہی ہیں بائیں بازو والے ⑲  
 ان پر آگ ہوگی پھائی ہوئی ⑳



(۹۱) سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ (۲۶) اَيَاتُهَا ۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

❖ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ①

قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی ①

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ②

قسم ہے چاند کی جب آتا ہے وہ پیچھے سورج کے ②

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ③

قسم ہے دن کی جب نمایاں کر دیتا ہے وہ سورج کو ③

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ④

قسم ہے رات کی جب چھپا لیتی ہے وہ سورج کو ④

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ⑤

قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا ⑤

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ⑥

قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس نے اسے پھیلایا ⑥

وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ⑦

قسم ہے نفسِ انسانی کی اور جیسا کہ اس نے اسے ہموار کیا ⑦

فَالهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ⑧

پھر الہام کر دی اس پر بدی اس کی اور پرہیزگاری اس کی ⑧

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ⑨

یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا نفس کو ⑨

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ⑩

اور یقیناً نامراد ہو گیا وہ جس نے خاک میں ملایا اس کو ⑩

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ⑪

جھٹلایا ثمود نے بسبب اپنی سرکشی کے ⑪

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ⑫

جب بچھرا اٹھا ان کا سب سے بڑا بد بخت شخص ⑫

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ

تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے (خبردار دور رہنا) اللہ کی اونٹنی

وَسُقِيهَا ⑬

اور اس کی پانی کی باری سے! ⑬

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ⑭

مگر جھٹلایا انہوں نے اللہ کے رسول کو اور ہلاک کر دیا اونٹنی کو



قَدَّمَدَمَ عَلَيْهِمُ

رَبُّهُمُ بِذُنُوبِهِمُ

فَسَوَّيْهَا ۱۴

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۱۵

۱۰۶۱

آخر کار تباہی و بربادی نازل کر دی ان پر

ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے

اور اس کو ہلاک کر کے (برابر کر دیا ان کو ۱۴)

اور نہیں کوئی خوف اسے اس کے برے نتیجے کا ۱۵

## بِآيَاتِهَا ۲۱ (۹۲) سُورَةُ الْاَيْلِ مَكِّيَّةٌ (۹) كَوْعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

۱ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپے

۲ اور دن کی جب وہ روشن ہو

۳ اور قسم ہے اس (حکمت) کی کہ پیدا کیے اس نے **نروملدہ**

۴ بے شک تمہاری **کوششیں** مختلف قسم کی ہیں

۵ سو وہ جس نے **دیا مال اللہ کی راہ میں** اور ڈرتا رہا

۶ اور پرج مانا بھلائی کو

۷ سو تو فریق دیں گے ہم اس کو راحت کے راستے کی

۸ اور وہ جس نے **بخل کیا اور بے نیازی برقی**

۹ اور جھٹلایا بھلائی کو

۱۰ تو ہم پہنچائیں گے اسے **سختی میں**

اور نہ کام آئے گا اس کے اس کا مال

۱ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۱

۲ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۲

۳ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۳

۴ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۴

۵ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۵

۶ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۶

۷ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۷

۸ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۸

۹ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۹

۱۰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۱۰

۱۱ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ



إِذَا تَرَدَّى ⑪

جب گرے گا وہ (دوزخ کے) گڑھے میں ⑪

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ⑫

بے شک ہماری ذمہ ہے راہ دکھانا ⑫

وَأَنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ⑬

اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت کے اور دنیا کے بھی ⑬

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ⑭

پس میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ⑭

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ⑮

نہیں جھلسے گا اس میں مگر وہ انتہائی بدبخت ⑮

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ⑯

جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا ⑯

وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى ⑰

اور بچایا جائے گا اس سے وہ بڑا پرہیزگار ⑰

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ⑱

جو دیتا ہے اپنا مال پاکیزگی کی خاطر ⑱

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی ایسا احسان

تُجْزَى ⑲

کہ اس کا بدلہ دیا جائے ⑲

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ⑳

(وہ دیتا ہے) محض خوشنودی چاہنے کی خاطر اپنے ربِ اعلیٰ کی ⑳

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ㉑

اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا ㉑

### ﴿آيَاتُهَا ۱۱﴾ سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ ( ۱۱ ) ﴿رُكُوعُهَا ۱﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قسم ہے روز روشن کی ①

﴿ وَالضُّحَىٰ ①﴾

اور رات کی جب وہ چھا جائے ②

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ②﴾

نہیں چھوڑا تم کو (اے محمدؐ) تمہارے رب نے

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ③﴾



وَمَا قَلِيَ ۝

اور نہ وہ ناراض ہوا ۝

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝

اور یقیناً بعد کا دور بہتر ہے تمہارے لیے پہلے دور سے ۝

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

اور عنقریب (وہ کچھ) عطا کرے گا تمہیں

رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

تمہارا رب کہ خوش ہو جاؤ گے تم ۝

الْمُتَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝

کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تم کو یتیم بھر ٹھکانا فراہم کیا ۝

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝

اور پایا تم کو ناداوقفِ راہ تو راہ دکھائی ۝

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

اور پایا تم کو تنگ دست سو غنی کر دیا ۝

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

لہذا یتیم پر سختی نہ کرنا ۝

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

اور جو سوالی ہو (اسے) نہ جھڑکنا ۝

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

اور جو نعمتیں ہیں تمہارے رب کی ان کو خوب بیان کرتے رہنا ۝

### آياتہا (۹۳) سُورَةُ الْمُنَشَّرِ مَكِّيَّةٌ (۱۲) ذِكْرُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

۱ (اے محمد) کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ

۱ الَّذِي أَلْمَشَّرَ لَكَ صَدْرَكَ ۝

۲ اور اتار دیا ہم نے تم پر سے بوجھ تمہارا

۲ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝

۳ وہ (بوجھ) جو توڑے دے رہا تھا تمہاری کمر

۳ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

۴ اور بلند کر دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر

۴ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

۵ تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے

۵ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝



یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے ④

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ④

پھر اب جبکہ فارغ ہو چکے ہو تم تو محنت کرو (فرائض نبوت میں) ⑤

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑤

اور اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو ⑧

وَالِى رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑧

## (۹۵) سُورَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ (۲۸) وَكُوفُومًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ①

وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ①

اور طور سینا کی ②

وَطُورِ سِينِينَ ②

اور اس شہر امن والے کی ③

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③

بلاشبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

بہترین ساخت پر ④

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④

پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے ⑤

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

اور کیے انہوں نے نیک کام

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سوان کے لیے ہے اجر بے انتہا ⑥

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥

پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو (اے نبی) اس کے بعد،

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ

جزا و سزا کے معاملہ میں ⑦

بِالدِّينِ ⑦

کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ ⑧

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ⑧



(۹۶) سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ (۱) يَا أَيُّهَا رَكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- ﴿۱﴾ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿۱﴾
- ﴿۲﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲﴾
- ﴿۳﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿۳﴾
- ﴿۴﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿۴﴾
- ﴿۵﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿۵﴾
- ﴿۶﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿۶﴾
- ﴿۷﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ﴿۷﴾
- ﴿۸﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿۸﴾
- ﴿۹﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿۹﴾
- ﴿۱۰﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿۱۰﴾
- ﴿۱۱﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿۱۱﴾
- ﴿۱۲﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿۱۲﴾
- ﴿۱۳﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿۱۳﴾
- ﴿۱۴﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿۱۴﴾
- ﴿۱۵﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ﴿۱۵﴾
- ﴿۱﴾ پڑھو (اے نبی!) اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا
- ﴿۲﴾ پیدا کیا انسان کو (نطفہ مخلوط کے) جمے ہوئے خون سے
- ﴿۳﴾ پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے
- ﴿۴﴾ جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعہ سے
- ﴿۵﴾ سکھایا انسان کو وہ علم جو نہیں جانتا تھا وہ
- ﴿۶﴾ خبردار! بے شک انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے
- ﴿۷﴾ اس بنا پر کہ دیکھتا ہے وہ خود کو بے نیاز
- ﴿۸﴾ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے
- ﴿۹﴾ بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے
- ﴿۱۰﴾ ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے
- ﴿۱۱﴾ بھلا دیکھو تو اگر ہو (وہ بندہ) راہِ راست پر
- ﴿۱۲﴾ یا تلقین کرتا ہو پڑھنے کی
- ﴿۱۳﴾ تمہارا کیا خیال ہے اگر جھٹلاتا ہو یہ (منع کرنے والا) اور نہ مڑتا ہو
- ﴿۱۴﴾ کیا نہیں جانتا وہ کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟
- ﴿۱۵﴾ خبردار! اگر نہ باز آ یا وہ



- لَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۱۵  
 نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۱۶  
 فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۱۷  
 سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۱۸  
 كَلَّا لَا تَطِعُهُ  
 وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۱۹
- توضرور گھسیٹیں گے ہم (اسے) پیشانی کے بل ۱۵  
 پیشانی جو جھوٹی بھی ہے خطا کار بھی ۱۶  
 پس بلائے وہ اپنے حامیوں کی ٹولی کو ۱۷  
 ہم بھی بلائے لیتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو ۱۸  
 خبردار! نہ مانو کہ اس کا  
 اور سجدہ کرو (اپنے رب کو) اور قرب حاصل کرو ۱۹

التَّجْوِيدُ ۳۰

آيَاتُهَا (۹۶) سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ (۲۵) وَكُوتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۱  
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۲  
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ  
 مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۳  
 تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ  
 فِيهَا بِأُذُنِ رَبِّهِمْ  
 مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۴  
 سَلَامٌ هِيَ  
 حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۵
- یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے قرآن کو شب قدر میں ۱  
 اور کیا جانو تم کہ کیا ہے شب قدر؟ ۲  
 شب قدر بہتر ہے  
 ہزار مہینوں سے ۳  
 اترتے ہیں فرشتے اور روح  
 اس رات میں اپنے رب کے اذن سے،  
 ہر حکم لے کر ۴  
 سراسر سلامتی ہے یہ رات  
 طلوع فجر تک ۵

مَعَالِمُ الْقُرْآنِ ج ۱ ص ۱۰۶  
 دَفْعَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْحَقِّ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحِيمِ



(۹۸) سُورَةُ الْبَيْتَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۰) آيَاتُهَا ذِكْرُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے



لَعَلَّيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے

اور مشرکوں میں سے باز آنے والے (اپنے کفر سے)

جب تک کہ (نہ) آتی ان کے پاس روشن دلیل ①

(یعنی) ایک رسول اللہ کی طرف سے

جو پڑھ کر سنائے پاک صحیفے ②

جن میں لکھی ہوں تحریریں راست اور درست ③

اور نہیں بٹے فرقوں میں وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب

مگر اس کے بعد کہ آگئی تھی ان کے پاس واضح دلیل ④

اور نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی

خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنے دین کو۔ یکسو ہو کر

اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ

اور یہی ہے نہایت صحیح اور درست دین ⑤

بے شک وہ جنہوں نے انکار کیا محمد کی نبوت کا،

اہل کتاب اور مشرکوں میں سے ہوں گے جہنم کی آگ میں

ہمیشہ رہیں گے اس میں۔

وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيْتَةُ ①

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ

يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ②

فِيهَا كُتِبَ الْقِسْمَةُ ③

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيْتَةُ ④

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ⑤ حُنَفَاءَ

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقِسْمَةِ ⑤

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

خَالِدِينَ فِيهَا



أُولَٰئِكَ هُم شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

یہی لوگ ہیں مخلوق میں سب سے بدتر ⑥

بے شک وہ جو ایمان لائے (اہل کتاب میں سے)

اور یہ انہوں نے نیک عمل -

یہی لوگ ہیں مخلوق میں سب سے بہتر ⑥

جزا ہے ان کی ان کے رب کے ہاں جنتیں سدا بہنے والی

جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں بہا رہیں گے وہ ان میں

ہمیشہ ہمیشہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے

اللہ سے۔ یہ ہے (صلو) اس شخص کا جو ڈرتا رہا اپنے رب سے ⑧

### آیۃ ۹۹، سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ (۹۳) ذِكْرُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

① جب ہلا ڈالی جائے گی زمین اپنی پوری شدت سے

② اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے سارے بوجھ

③ اور کہے گا انسان اُسے کیا ہو گیا؟

④ اس دن کہہ ڈالے گی زمین اپنے (اوپر بیٹے ہوئے) حالات

⑤ اس لیے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اسے (ایسا کرنے کا)

اس دن پلٹیں گے لوگ گروہ درگروہ -

⑥ تاکہ دکھائے جائیں گے انہیں اعمال ان کے

① إِذَا زُلْزَلَتِ الْأَرْضُ زَلْزَالَهَا

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

② يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

③ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

④ يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أَسْتَاتًا

⑤ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ



- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ④  
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑤
- سو جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی دیکھ لے گا وہ اسے ④  
 اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر بدی دیکھ لے گا وہ اسے ⑤

سُورَةُ الْعَدِيَّتِ مَكِّيَّةٌ (۱۰۰) اِنَّا نَهَا ۱۱۱ كَوْعَمَهَا ۱۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- وَالْعَدِيَّتِ صُبْحًا ①  
 قَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ②  
 قَالْمَغِيْرِيَّتِ صُبْحًا ③  
 فَآثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ④  
 فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑤  
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ⑥  
 وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشٰهِيْدٌ ⑦  
 وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ⑧  
 اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ  
 مَا فِی الْقُبُوْرِ ⑨  
 وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ⑩  
 اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ  
 یَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ⑪
- قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے ہانپتے (گھوڑوں) کی ①  
 جو چنگاریاں جھاڑتے ہیں (ٹاپوں) کی ٹھوکر سے ②  
 پھر چھاپہ مارتے ہیں صبح سویرے ③  
 پھر اڑاتے ہیں اس موقع پر گرد و غبار ④  
 پھر اندر جا گھستے ہیں اسی حالت میں کسی مجمع کے ⑤  
 بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے ⑥  
 اور بے شک وہ اس حقیقت پر خود گواہ ہے ⑦  
 اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے ⑧  
 تو کیا نہیں جانتا وہ (اس وقت کو) جب نکالا جائے گا  
 وہ جو قبروں میں (مدفن) ہے؟ ⑨  
 اور ظاہر کر دیے جائیں گے وہ (بھید) جو سینوں میں ہیں ⑩  
 یقیناً ان کا رب ان سے  
 اس دن خوب باخبر ہوگا ⑪



آيَاتُهَا ۱۱ سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ (۳۰) رُكُوْعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

۱ الْقَارِعَةُ ۱

وہ عظیم حادثہ! ①

۲ مَا الْقَارِعَةُ ۲

کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ ②

۳ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳

اور کیا جانو تم کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ ③

۴ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴

وہ دن جب ہوں گے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ④

۵ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵

اور ہوں گے پہاڑ دھکی ہوئی رنگین ادن کی مانند ⑤

۶ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۶

تو وہ شخص کہ ہوں گے وزن دار اعمال اس کے ⑥

۷ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۷

سو وہ ہوگا دلپسند عیش میں ⑦

۸ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸

اور وہ شخص کہ ہوں گے ہلکے اعمال اس کے ⑧

۹ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۹

تو ہوگا اس کا ٹھکانا گہرا گڑھا ⑨

۱۰ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۱۰

اور کیا جانو تم کیا ہے وہ؟ ⑩

۱۱ نَارٌ حَامِيَةٌ ۱۱

آگ ہے دہکتی ہوئی ⑪

آيَاتُهَا ۸ سُوْرَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ (۱۶) رُكُوْعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

غفلت میں ڈالے رکھا تم کو

۱۱ أَلْهَكُمُ



التَّكَاثُرُ ①

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ④

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمَ الْيَقِينِ ⑤

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ⑥

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ⑦

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ⑧

-۱۰۶۲

① ایک دوسرے سے بڑھ کر، زیادہ سے زیادہ (دنیا) حاصل کرنے کی ہوس نے

یہاں تک کہ جا دکھیں تم نے قبریں ②

خبردار! عنقریب معلوم ہو جائے گا تمہیں ③

پھر سن لو! عنقریب معلوم ہو جائے گا تمہیں ④

دیکھو! اگر معلوم ہوتا تمہیں (اس روش کا انجام)

یقینی علم کی حیثیت سے (تو تم ہرگز ایسا نہ کرتے) ⑤

جان لو تم ضرور دیکھو گے جہنم کو ⑥

پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے ⑦

پھر ضرور باز پرس ہوگی تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ⑧

آيَاتُهَا ۲ (۱۰۳) سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ (۱۳) كَوْنُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قسم ہے زمانے کی ①

یقیناً، انسان خسارے میں ہے ②

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے

اور کرتے رہے نیک عمل

اور نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی

اور تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر کی ③

وَالْعَصْرِ ①

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفَنِي خُسْرٍ ②

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ③

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ④

-۱۰۶۲



آيَاتُهَا ۱۰۴ سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ (۳۲) ذِكْوَعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو (منہ در منہ) طعنے دینے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ

اور (پیٹھ پیچھے) برائیاں کرنے کا خوگر ہے ①

لُحْمَةٍ ①

جو جمع کرتا رہا مال اور گن کر رکھتا رہا اسے ②

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ②

سمجھتا ہے کہ بے شک اس کے مال نے زندہ جاوید کر لیا ہے اسے ③

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③

ہرگز نہیں! ضرور اور بہر حال بھینکا جائے گا وہ حطہ میں ④

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④

اور کیا جانو تم کیا ہے حطہ؟ ⑤

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤

اللہ کی آگ ہے، دہکائی ہوئی ⑥

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ⑥

جو جا پہنچے گی دلوں تک ⑦

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ⑦

بے شک وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی ⑧

لِأَنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّاةٌ ⑧

اوپنے اوپنے ستونوں میں ⑨

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑨

آيَاتُهَا ۱۰۵ سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ (۱۹) ذِكْوَعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

کیا نہیں دیکھا تم نے کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے

الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ



- بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ①  
 الْمَرِيْعَلُ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلِ ②  
 وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③  
 تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ④  
 فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ ⑤
- ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ①  
 کیا نہیں کر دیا ان کے داؤ کو غلط؟ ②  
 اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ③  
 پھینکتے تھے وہ ان پر پتھریاں کنکر کی ④  
 پھر کر دیا اللہ نے ان کو مانند کھائے ہوئے بھس کے ⑤

سُورَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ (۲۹) كَوْعَمًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- إِلَيْفِ قُرَيْشٍ ①  
 الْفِئْمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ②  
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③  
 الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ④  
 وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ⑤
- اس بنا پر کہ مانوس کر دیا اللہ نے قریش کو ①  
 یعنی مانوس کیے ان کو تجارتی سفر سے، سردیوں میں اور گرمیوں میں ②  
 سو چاہیے کہ عبادت کریں وہ اس گھر کے رب کی ③  
 جس نے کھانے کو دیا انہیں بھوک میں ④  
 اور امن بخشا ان کو خوف سے ⑤

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ (۱۶) كَوْعَمًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّينِ ①  
 بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا دینا کو؟ ①



فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝

سو یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو ۝

وَلَا يُحِصُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

اور نہیں ترغیب دیتا ہے مسکین کا کھانا دینے کی ۝

قَوْلٍ لِّمُصَلِّينَ ۝

پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے ۝

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں ۝

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

جو ریاکاری کرتے ہیں ۝

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

اور نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ۝

-۳۲۱

آيَاتُهَا ۳ (۱۰۸) سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ (۱۵) تَكْوِيمُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝

بے شک ہم نے عطا کیا تم کو (اے محمدؐ) کثیر ۝

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝

لہذا نماز پڑھو تم اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو ۝

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

یقیناً جو دشمن ہے تمہارا وہی ہوگا بے نام و نشان ۝

-۳۲۱

آيَاتُهَا ۱ (۱۰۹) سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ (۱۸) تَكْوِيمُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝

کہہ دو اے منکرو! ۝

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝

نہیں عبادت کرتا میں جن کی عبادت کرتے ہو تم ۝



- اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اُس کی جس کی عبادت کرتا ہوں میں ③  
 اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی عبادت تم نے کی ④  
 اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں ⑤  
 تمہارے لیے ہے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ⑥

- وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ③  
 وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ④  
 وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ⑤  
 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ⑥

آيَاتُهَا ۳ (۱۱۰) سُورَةُ النَّصْرِ مَدِينَةُ (۱۱۴) رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- جب آجائے مدد اللہ کی اور فتح (نصیب ہو جائے) ①  
 اور دیکھ لو تم (اے نبی) لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ  
 اللہ کے دین میں فرج در فرج ②  
 تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے  
 بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا ③

- إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ①  
 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ  
 فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ②  
 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ  
 إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

آيَاتُهَا ۵ (۱۱۱) سُورَةُ الْاَلْهَبِ مَكِّيَّةٌ (۶) رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابولہب کے اور نامراد ہو گیا وہ ①  
 نہ کام آیا کچھ، اس کے مال اس کا اور نہ وہ جو اس نے کمایا ②

- تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ①  
 مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ②



سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾

عقرب جا پڑے گا وہ لپٹیں مارتی آگ میں ﴿٣﴾

وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

اور اس کی بیوی بھی، اٹھائے پھرنے والی ایندھن ﴿٤﴾

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

اس کی گردن میں (ہوگی) رسی مونیجھ کی ﴿٥﴾

آيَاتُهَا ۳ (۱۱۲) سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ (۲۲) رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿١﴾ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾

کہو وہ اللہ ہے یکتا ﴿١﴾

اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ﴿٢﴾

لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ﴿٣﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

اور نہیں ہے اس کا ہمسر بھی کوئی ﴿٤﴾

آيَاتُهَا ۵ (۱۱۳) سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ (۲۰) رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿١﴾ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾

کہو پناہ مانگتا ہوں میں صبح کے رب کی ﴿١﴾

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾

شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیں ﴿٢﴾

وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾

اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے وہ ﴿٣﴾

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّٰثِۃِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾

اور شر سے گرمیوں میں پھونک مارنے والیوں کے ﴿٤﴾



وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

اور شر سے حاسد کے جب حسد کرے وہ ⑤

## آیاتھا ۱ (۱۱۳) سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ (۲۱) رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

① کمونپناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی

① قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ①

② انسانوں کے بادشاہ کی

② مَلِكِ النَّاسِ ②

③ انسانوں کے معبود کی

③ إِلَهِ النَّاسِ ③

④ شر سے دوسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے

④ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④

⑤ جو دوسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں

⑤ الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤

⑥ وہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے

⑥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے اللہ! اور فرما میری پریشانی میری قبر میں اے اللہ! رحم فرما مجھ پر  
قرآن عظیم کی برکت سے اور بنا تو قرآن کو میرے لیے پیشوا، روشنی،  
ہدایت اور رحمت لے اللہ! یاد دلا تو مجھے قرآن میں سے  
جو میں بھول گیا ہوں اور سکھلا دے تو مجھے اس میں سے  
جو میں نہیں جانتا اور نصیب فرما تو مجھے اس کی تلاوت رات کے وقت  
اور دن کے وقت اور بنا تو اس کو میرے لیے حجت  
اے رب العالمین (قبول فرما)

اللَّهُمَّ اِنْسِ وَحْشَتِي فِي قَبْرِي۔ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي  
بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَنُورًا  
وَهُدًى وَرَحْمَةً ۞ اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ  
مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ  
مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ اِنَاءَ اللَّيْلِ  
وَاِنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً  
يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ (امين)

تصدیق قرآن آسان تحریک کے شائع کردہ ترجمہ قرآن حکیم کا عربی متن میں نے حرفاً حرفاً پڑھا ہے۔ میں اس کی صحت کی تصدیق کرتا ہوں کہ  
اب اس میں اعراب وغیرہ کی کوئی غلطی نہیں جس سے قرآن حکیم کے متن میں کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہو۔